

واٹرلو (Waterloo) ریجن ویکسین ٹاسک فورس 12 اور 17 سال کے درمیان عمروں کے نوجوانوں اور وہ جن خاندانی ممبروں کے ساتھ رہتے ہیں (جنہوں نے کووڈ-19 کا اپنا پہلا ٹیکہ نہیں لگوایا) انہیں ویکسین لگوانے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ نوجوانوں کا ویکسین لگوانا کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو محدود کرنے میں مدد کیلئے اور اسکول میں ذاتی طور پر واپس آنے کو زیادہ محفوظ بنانے کیلئے ضروری ہے۔

اب یہ ویکسین کون لگوا سکتا ہے؟

12 سے 17 سال کے درمیان عمروں کے نوجوان اب **کووڈ-19 ویکسین کیلئے پہلے سے رجسٹر** کروا سکتے ہیں۔ نوجوان اور وہ خاندانی ممبران جن کے ساتھ وہ رہتے ہیں، 7 جون سے 20 جون کے درمیان اپنے ٹیکے کیلئے ایک وقت کی بکنگ کروا سکیں گے۔ **نوجوانوں کو اپنی اپوائنٹمنٹ کے وقت لازمی طور پر 12 سال کا ہونا چاہئے۔** اس بات کا امکان ہے کہ نوجوان اپنا دوسرا ٹیکہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں جلد لگوا سکیں گے، تاکہ وہ 2021ء کے تعلیمی سال سے پہلے اپنے دونوں ٹیکے لگوا لیں۔ اس وقت، خاندانی افراد اپنا دوسرا ٹیکہ جلد نہیں لگوا سکتے جب تک کہ وہ کسی دوسرے **اہل ترجیحی** گروپ کا حصہ نہ ہوں۔

کون سی ویکسین لگائی جائے گی؟

ہیلتھ کینیڈا 12 سال یا اس سے زائد عمر کے برفرد کیلئے فائزر - بائیو این ٹیک کووڈ-19 ویکسین کی منظوری دے چکی ہے۔ مزید معلومات کیلئے وسائل نیچے دیکھیں۔

- [نوجوانوں کیلئے کووڈ-19 ویکسین](#)
- [چائلڈ اینڈ یوتھ کووڈ-19 ویکسین کا حقائق نامہ](#)
- [کووڈ-19 ویکسین اکثر پوچھے گئے سوالات](#)

پہلے سے رجسٹر کیسے کروائیں؟

کووڈ-19 ویکسین کیلئے پہلے سے رجسٹر کروانے کیلئے یہاں کلک کریں۔

- براہ کرم ترجیحی گروپ کے طور پر "12-17 سال کی عمر کے نوجوان" کو منتخب کریں۔
- نوجوان کی ذاتی معلومات کے ساتھ فارم کو مکمل کریں، خاندان کے افراد کو فارم مکمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
- جب نوجوان اپنے بکنگ کوڈ حاصل کر لیتے ہیں، تو ایک ہی گھر کے خاندانی افراد اپنا پہلا ٹیکہ لگوانے کی خاطر وقت کی بکنگ کیلئے وہی بکنگ کوڈ استعمال کر سکتے ہیں۔

اگر آپ کو فارم پُر کرنے میں مدد کی ضرورت ہو، تو براہ مہربانی [فارم کو کیسے پُر کرنا ہے اس بارے میں ویڈیو دیکھیں](#)، یا کسی ایسے فرد سے مدد کیلئے کہیں جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اضافی مدد کی ضرورت ہے تو 519-575-4400 پر کال کریں، مدد 200 سے زائد زبانوں میں دستیاب ہے۔ سماعت سے محروم اور اونچا سنائی دینے والوں کیلئے (ٹی ٹی وائی): 519-575-4608

جب آپ فارم پُر کریں گے تو آپ اپنا بکنگ کوڈ اسی طرح حاصل کریں گے جس طرح سے آپ نے اسے لینے کو کہا تھا۔ براہ مہربانی باقاعدگی سے اپنے ای میل میں اپنا جَنک (JUNK)/اسپیَم (SPAM) فولڈر چیک کریں۔

جب آپ اپنا بکنگ کوڈ حاصل کرتے ہیں، تو براہ مہربانی جلد از جلد اپنے وقت کیلئے بکنگ کروالیں۔ اگر خاندانی ممبران ریجن آف واٹرلو پبلک ہیلتھ کے ساتھ پہلے ہی سے رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، تو وہ اسی بکنگ کوڈ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بناوا سکتے ہیں جو ان کے نوجوان کو موصول ہوا تھا اور بعد میں انہیں جو بھی بکنگ کوڈ ملتا ہے اسے حذف کر دیں۔

نوجوان اپنا ٹیکہ کہاں سے لگوا سکتے ہیں؟

نوجوانوں کو ایسی کلینک میں وقت بک کروانے کی ضرورت ہوتی ہے جو فائزر ویکسین کی پیشکش کرتی ہیں۔ براہ مہربانی جب اپوائنٹمنٹ بک کریں تو نیچے دی ہوئی کلینکوں میں سے کوئی ایک کلینک منتخب کریں:

- کیمبرج پائن بش، کیمبرج (Cambridge)
- ہیلتھ سائنسز کیمپس، کچنر (Kitchener)
- براڈ واک، واٹرلو (Waterloo)
- ویلزلی کلینک، ویلزلی (Wellesley)
- نیوویشن ایف ایچ ٹی، کچنر (Kitchener)

یہ دیکھنے کیلئے کہ کلینکس کہاں واقع ہیں، [بیمار کووڈ-19 ویکسینیشن کلینکس نقشہ](#) ملاحظہ کریں۔

نوجوانوں کو اپنی اپوائنٹمنٹ والے دن اپنا ہیلتھ کارڈ ہمراہ لانا چاہئے۔ اگراں کے پاس ہیلتھ کارڈ نہیں ہے، تو براہ مہربانی کوئی دوسری شناخت ہمراہ لائیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہو کہ وہ کون ہیں اور اس پر نمبر/کوڈ موجود ہو۔ اپنی اپوائنٹمنٹ سے پہلے اور بعد میں کیا کرنا ہے اس بارے میں معلومات کیلئے [وائرلور یجن میں کووڈ-19 ویکسینیشن کلینکس](#) ویب پیج پر جائیں۔

[insert name of Board or school] ان تمام افراد کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جو اپنی ویکسین لگوانے کیلئے پہلے سے [رجسٹر کروانے](#) کے اہل ہیں۔ جب ممکن ہو، اور اپنے (بچوں) کو ان کے بہترین طور پر سیکھنے میں مدد کیلئے، براہ مہربانی اسکول کے اوقات ذہن میں رکھیں۔ تاہم، اگر آپ صرف اسکول کے دن کے دوران اپوائنٹمنٹ بک کروانے کے اہل ہیں، تو براہ مہربانی پھر بھی بک کروالیں۔ ہماری کمیونٹی میں سب کی صحت کو ترجیح دینے کا یہ ایک اہم موقع ہے۔

ہماری کمیونٹی کو سلامت رکھنے میں آپ کے مسلسل تعاون کیلئے شکریہ۔

مخلص،

[person with signing authority for the school]